

انٹل ریٹائزنگ لمیٹڈ

اعلیٰ معیار، توانائی کے ماحول دوست وسائل اور پیٹرو کیمیکلز کی پیداوار کا عالمی سطح کا ایک ممتاز ادارہ بننا ہم تمام فریقین کی توقعات سے بڑھ کر جدید ترین ٹیکنالوجی، اعلیٰ کارکردگی کی حامل افرادی قوت، اعلیٰ کاروباری طریقہ کار اور اشتراک عمل کے کلچر کو بروئے کار لائیں گے

وژن
مشن

ہماری کامیابی اتفاقی نہیں بلکہ ہم مندرجہ ذیل اعلیٰ اوصاف و اقدار پر صدق دل سے یقین رکھتے ہیں جن کے ذریعے ہم ایسی بے مثال کامیابی کے حصول کا ماحول بنانے کے لئے سوچتے اور اس کے لئے عملی اقدامات کرتے ہیں۔

بنیادی اقدار

کاروباری ساکھ، دیانت داری، اعلیٰ اخلاقی اقدار، قانونی اور حفاظتی معیارات ہمارے کاروباری معاملات میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔

ساکھ و اخلاقی

اقدار

ہم معیار کو زندگی کا اصل مقصد سمجھتے ہیں یہ ایک ایسا رویہ ہے جو تمام امور پر اثر انداز ہوتا ہے اور ہم اسی حوالے سے اپنی شاندار کامیابی کے لئے انتھک محنت کرتے ہیں۔

معیار

ہم احترام معاشرہ اور اپنی آنے والی نسلوں کو ماحولیاتی آلودگی سے بچانے پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے سارے اعمال میں قومی مفادات کو مقدم رکھتے ہیں۔

سماجی ذمہ

داری

ہم علم و اختراع کو مستقبل میں اپنی کامیابی کے لئے ایک خصوصی عنصر سمجھتے ہیں۔ ہم مسلسل بہتری پر یقین رکھتے ہیں اور بہتر مستقبل کے لئے تبدیلی کے عمل میں موجود مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

علم و اختراع

ہماری یقین ہے کہ باصلاحیت اور مطمئن لوگ ہی کمپنی کا دل، دست و بازو اور روح ہوتے ہیں۔ ہم باہمی عزت، اعتماد اور وسعت قلبی کی بنیاد پر ٹیم ورک اور علم کے تبادلہ کے رویے کو فروغ دے کر اپنے ادارے میں ذہین افراد کی مہارتوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔

ٹیم ورک

ہم تمام سطحوں پر اختیارات کی تفویض، احتساب اور آزادی اظہار کے نظریہ کی بنیاد پر قائم کردہ باہمی افہام و تفہیم کے ایک نظام کے تحت کام کرتے ہیں۔

اختیارات کی

تفویض